

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن اپنے شہر کی شان و شوکت کو دوبالا کرنے کے لیے سٹریٹ سکیننگ کی دلکش تعمیرات کے ساتھ آگے بڑھے گا

برامپٹن، آن (23 ستمبر 2021) – سٹی آف برامپٹن اپنے شہر کی تزئین و آرائش کے لیے اہم اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے، برامپٹن کمیٹی آف کونسل نے گذشتہ روز شہر کے انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پلان (IDP) کے پہلے مرحلے کے حصے کے طور پر اسٹریٹ سکیننگ کے کام میں 16.6 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں بڑی شاندار تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں کیونکہ سٹی مقامی ضروریات کو پورا کرنے، معاشی بحالی میں اعانت کرنے، ملازمتیں پیدا کرنے اور برامپٹن کے رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے متحرک اور لچکدار کمیونٹیز کی تعمیر کے لیے عوامی مقامات کو نئے سرے سے استوار کرنے اور ان کی تشکیل نو پر غور کر رہا ہے۔ ریجن آف پیل کے ڈاؤن ٹاؤن انفراسٹرکچر کے کام کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ، سٹی اپنے سٹریٹ سکیننگ کے کام کو آگے بڑھائے گا، جس میں موجودہ فٹ پاتھوں کو پتھر کے پیورز سے تبدیل کرنا اور کوئین اور مین اسٹریٹس کی دونوں جانب چوڑے فٹ پاتھوں کے ساتھ سڑکوں کی دوبارہ سرفسنگ کرنا شامل ہے۔ یہ تقریباً 16.6 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری تجارتی سرگرمیوں، پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے لیے شہر میں معیاری جگہیں بنانے اور ایٹوبیکوک اور فلیچرز کریکس کے درمیان فعال روابط استوار کرنے کے علاوہ ڈاؤن ٹاؤن کے مرکز میں پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے کشش کا باعث بنے گی۔

عملے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ IDP کی منظوری کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ایسا ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن سٹریٹ سکپ مینوئل تیار کرے، جو ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے اندر متنوع مقامی آبادی کو آگاہ رکھے گا۔

علاوہ ازیں، عملہ ڈاؤن ٹاؤن میں عارضی اور طویل مدتی شہری ڈیزائن ایکٹیویشنز کے لیے ترقیاتی مواقع کا مطالعہ کرنے کے لیے 8 ہفتوں پر مشتمل ایک اربن ڈیزائن ایکٹیویشن حکمت عملی کا انعقاد بھی کرے گا۔ اس منصوبے کے دائرہ کار میں شامل ہیں، ڈاؤن ٹاؤن سے مین اسٹریٹ پر وقف شدہ بائیک لینز بنانا، سائیڈ واکس پر قابل منتقلی پلانٹرز اور لینڈ سکیننگ کی اشیاء کی تنصیبات، سیمی ماؤنٹ ایبل کریز بنانا، کراس واکس پر اسٹریٹ کی علامات اور راستہ تلاش کرنے کے نشانات، اور مستقبل میں ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے فائبر آپٹکس کی وسیع گنجائش رکھنے کے لیے تعمیرات کے اندر اضافی نالیوں کی تنصیب، مگر یہ ان تک محدود نہیں۔

سٹی انجینئرنگ ڈیزائن پر فوری طور پر کام شروع کر سکتا ہے اور یہ 2023 کے اوائل تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ برامپٹن کی ڈاؤن ٹاؤن کاروباری کمیونٹی کووڈ-19 وباء سے شدید طور پر متاثر ہوئی ہے اور سٹی ان کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم از کم کرنے اور ان کی معاشی بحالی میں مدد فراہم کرنے کے لیے پُر عزم ہے۔

سٹی، ڈاؤن ٹاؤن کی چمک دمک کی دوبارہ بحالی کے لیے قلیل مدتی حکمت عملیوں کا تعین بھی جاری رکھے ہوئے ہے جس پر اگلے دو سال کے اندر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ کمیٹی نے اپنے گزشتہ روز کے اجلاس میں سٹی کے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن اور شہر میں موجود اپنے ملکیتی سٹوروں کے سامنے اور کوئین اسٹریٹ ایسٹ پر موجود اپنے ملکیتی ٹریفک کنٹرول باکسز پر STEPS کی مشاورت سے تیار اور تجویز کردہ تصویری خاکوں کی تنصیب کی منظوری دی ہے۔ برامپٹن میں فنون و ثقافت کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca)

انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پلان کے بارے میں

IDP ہمارے کام کا ایک لائحہ عمل ہے – جو ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کی کئی جاری ترغیبات اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کو باہم مربوط کر رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ 2051 تک مستقبل کی ترقی اور حکمت عملی کے ساتھ سرمایہ کاری میں ایک رہنما کا کردار ادا کرے گا۔

IDP کے رہنماء اصولوں میں شمولیت، اختراع اور دوام شامل ہیں۔ اس سے بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈیشن، اربن ڈیزائن کی تیاری، زمین کے موزوں استعمال اور مداخلتوں کے پروگراموں کو باہم مربوط کرنے میں مدد ملے گی - جو برامپٹن کو ایک اہم معاشی محرک، علاقائی ثقافتی مرکز اور ایک اختراعی ڈسٹرکٹ کے مقام پر کھڑا کر دے گا۔

**اقتباسات**

"ہم ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کی صلاحیتوں کو سامنے لانے اور اس کو تقویت پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور سٹی کے انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پلان کے پہلے مرحلے کے حصے کے طور پر سٹریٹ سکپنگ کے کام کے لیے 16.6 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی منظوری سے، ہم ایک معیاری شہری مقام اور ڈاؤن ٹاؤن کے مرکز میں پیدل چلنے والے افراد کے لیے ایک بہترین اور خوشگوار مقام کی تخلیق کی جانب ایک اور قدم آگے بڑھیں گے۔ میں ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کو اپنے رہائشیوں، کاروباری اداروں اور وزیٹرز کے لیے ایک متحرک اور لچکدار کمیونٹی میں تبدیل ہوتا دیکھنے کا منتظر ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے شہر کے کاروبار کوڈ-19 وباء کی وجہ سے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں اور ہم معاشی بحالی کے سفر میں ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سٹریٹ سکپنگ کا یہ پروجیکٹ، ڈاؤن ٹاؤن کی بہتری کے لیے قابل تعریف قلیل مدتی حکمت عملیوں کے ساتھ، برامپٹن کو ایک معاشی محرک، علاقائی ثقافتی مرکز اور اختراعی ڈسٹرکٹ کے طور پر ایک شاندار مقام دینے کا کام کرے گا۔ ہم ان فوائد کے منتظر ہیں جو انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پلان ہمارے ڈاؤن ٹاؤن، رہائشیوں اور مقامی کاروباری اداروں کو فراہم کرے گا۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کی جانب سے، ہم اپنے ڈاؤن ٹاؤن کو بہتر بنانے اور اپنے رہائشیوں کے رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے مکمل کمیونٹیز بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اپنے انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پلان کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے علاوہ عوامی فن پاروں کی زیبائش اور اربن ڈیزائن ایکٹیویشن حکمت عملی جیسے قابل قدر اقدامات کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، ہم ملازمتیں پیدا کرنے، معاشی بحالی کو تقویت پہنچانے اور اپنے رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے عوامی مقامات کی ازسر نو آرائش و زیبائش کر کے انہیں ایک نئی اور دلکش وضع قطع میں تعمیر کر رہے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA کی جانب سے، ہمیں ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے لیے بحالی اور تعمیر نو کے انتہائی اہم عملی منصوبوں اور خاکوں کے بارے میں جان کر بہت خوشی محسوس ہوئی ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ شہری منصوبہ بندی اور شہری ڈیزائن کے ہمارے ماہرین، بحالی کے اس بھرپور منصوبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، جیسا کہ کمیٹی آف کونسل میں گزشتہ روز پیش کیا گیا تھا۔"

- کیری پرسیوال، چیئر، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن، BIA

"ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA، سٹی آف برامپٹن اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے ابھرتے ہوئے کلچرل ہب اور انوویشن ڈسٹرکٹ پر اس سرمایہ کاری کی قیادت کرنے کے لیے، کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہے، جس سے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کی حقیقی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی۔"

- سوزی گوڈفرائے، ایگزیکٹو ڈائریکٹ، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔



## Media Release

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)